

## SHSAT کے نتائج دستیاب ہیں!

عزیزی اہل خانہ،

جن طلبا نے دسمبر 2021 میں متخصص ہائی اسکول داخلہ امتحان (SHSAT) امتحان دیا تھا اس وقت ان کے لیے نتائج دستیاب ہیں! بطور یاد دہانی، یہ امتحان دینا ہی وہ طریقہ ہے جس سے طلبا آٹھ امتحان لینے والے متخصص ہائی اسکولوں کے لیے درخواست دیتے ہیں۔

اگر آپ کے بچے نے SHSAT لیا تھا، اب آپ ان کے نتائج کو آن لائن [MySchools.nyc](https://myschools.nyc.gov) پر یا اپنے اسکول مشیر سے حاصل کر سکتے ہیں؛ اگر آپ نے مائی اسکولز میں "Just email me" (مجھے صرف ای میل بھیجیں) انتخاب نہیں کیا تھا تو آپ بذریعہ ڈاک نتائج کا ایک خط بھی موصول کریں گے۔

### نتائج اور پیشکشیں

1. آپ کے بچے کے نتائج میں SHSAT اسکور بھی شامل ہوں گے۔
2. آپ کے نتائج میں امتحان لینے والے متخصص ہائی اسکول کی ایک تک پیشکش شامل ہو سکتی ہے۔ SHSAT لینے والے تمام طلبا ایک امتحان لینے والے متخصص ہائی اسکول کی ایک پیشکش موصول نہیں کریں گے، اور متخصص ہائی اسکولوں کی منتظرین فہرست نہیں ہوتی ہیں۔

اگر آپ کے بچے نے ایک امتحان لینے والے متخصص ہائی اسکول کی ایک پیشکش موصول کی ہے تو اس وقت اس کو قبول کرنے کے علاوہ کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

### اگلے اقدامات

- جون میں، ہائی اسکول کی پیشکشیں دستیاب ہوں گی۔
- آپ کے بچے کے ہائی اسکول پیشکش خط میں ہائی اسکول درخواست طریق کار سے ایک تک پیشکش، منتظرین کی فہرست کی کوئی بھی معلومات، لگوارڈیا ہائی اسکول نتائج (اگر آپ کے بچے نے آڈیشن دیا تھا) شامل ہو سکتے ہیں۔
  - اگر آپ کا بچہ اپنی درخواست سے ایک پروگرام کی اور ایک متخصص ہائی اسکول کی پیشکش موصول کرتا ہے، جون میں ان کے پیشکش کے خط میں سے کسی ایک پیشکش کو قبول کرنے کی آخری تاریخ ہوگی۔
  - اگر آپ کا بچہ ستمبر 2022 میں ایک چارٹر اسکول، ایک نجی / مذہبی اسکول یا نیو یارک شہر سے باہر ایک اسکول میں شرکت کرنے کا آغاز کرے گا تو ہائی اسکول کی پیشکش کے خطوط کے دستیاب ہو جانے کے بعد آپ "خارج" (اوپٹ آؤٹ) ہو سکتے ہیں۔

### اپنے بچے کی نتائج کے بارے میں سوالات ہیں؟

- [اس ویڈیو](https://schools.nyc.gov/SHS) میں یہ جانیں کہ طلبا آٹھ امتحان لینے والے متخصص ہائی اسکولوں کے لیے پیشکشیں کس طرح موصول کرتے ہیں۔
- اپنے بچے کے موجودہ اسکول مشیر سے بات کریں۔
- ایک [خاندانی استقبالیہ مرکز](https://schools.nyc.gov/SHS) سے رابطہ کریں
- ذیل پر ہماری ویڈیوز ملاحظہ کریں اور مزید جانیں [schools.nyc.gov/SHS](https://schools.nyc.gov/SHS)

آپ کا شکریہ!

ہائی اسکول داخلہ ٹیم  
دفتر برائے طالبانہ اندراج